

برائے فوری اجراء

برامپٹن میں تیز رفتاری کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا سڑکوں کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے برامپٹن سٹی کونسل نے تحریک کو منظور کر لیا

برامپٹن، آن (13 جولائی 2020) – مورخہ 8 جولائی کو سٹی کونسل نے سالانہ بنیادوں پر 200 مقامات پر آٹومیٹڈ سپیڈ انفورسمنٹ (ASE) کے نفاذ کی متفقہ منظوری دے دی ہے تاکہ تیز رفتاری اور ٹریفک کی وجہ سے رونما ہونے والے ناخوشگوار واقعات میں کمی لائی جا سکے اور برامپٹن میں روڈ استعمال کنندگان کے تحفظ میں اضافہ کیا جائے۔

موجودہ طور پر پانچ مقامات پر ASE کے انتہائی سائن بورڈ لگانے ہیں جن میں ستمبر 2020 تک کیمرے بھی نصب کر دیے جائیں گے:

- وارڈ 1: ووڈین اسٹریٹ ایسٹ (کینیڈی روڈ اور سنٹر اسٹریٹ کے درمیان)
- وارڈ 2: رچویل ڈرائیور نارٹھ (کینیڈی روڈ اور سینڈل ووڈ پارک وے کے درمیان)
- وارڈ 3: رے لاسن بولیورڈ (ہورونٹیریو اسٹریٹ اور میک لافلن روڈ کے درمیان)
- وارڈ 8: ایون ڈیل بولیورڈ (برامیلا روڈ اور برچ بینک روڈ کے درمیان)
- وارڈ 9: فرن فارسٹ ڈرائیو (بوویرڈ ڈرائیو اور سینڈل ووڈ پارک وے کے درمیان)

ستمبر 2020 تک سٹی 25 اضافی کمپوٹری سٹیٹو زون بنانے پر بھی کام کر رہا ہے۔ پورے شہر میں ASE کی معاونت کے لیے عملہ اضافی کیمروں کی خریداری کا عمل بھی شروع کر دے گا۔ اس سال کے آخر تک، خریداری کے عمل کی تکمیل کی توقع کی جا سکتی ہے۔

اس حوالے سے آگاہی پھیلانے کی ایک کوشش کے طور پر انتہائی سائن بورڈز کو شہر کے داخلی مقامات پر آویزاں کیا جائے گا تاکہ ڈرائیورز کو پیشگی آگاہ کر دیا جائے کہ ASE پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور یہ کہ کمپوٹری میں تیز رفتاری کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔

پس منظر

- منتخب شدہ میونسپلٹیوں کے ساتھ ASE کی قانون سازی صوبائی سطح پر کی گئی ہے جس مقصد مقامی کمیونٹیوں – بالخصوص روڈ استعمال کرنے والے کمزور طبقات مثلاً بچوں، کی حفاظت اور سکون کو یقینی بنانا ہے۔
- ASE ایک خودکار نظام ہے جس میں حد رفتار پر عمل درآمد کرانے کے لیے کیمرہ اور رفتار کو ناپنے والی ڈیوائس استعمال کی گئی ہے۔
- ASE صرف انہی گاڑیوں کی نشاندہی کرے گا اور تصاویر بنائے گا جو اسکول زونز اور کمپوٹری سٹیٹو زونز میں منظور شدہ رفتار سے تیز چل رہی ہوں گی۔ گاڑی جو بھی چلا رہا ہو، جرمانے گاڑیوں کے رجسٹر شدہ مالکان پر کیے جائیں گے۔
- قانون کے مطابق ASE کو اسکول زونز یا کمپوٹری سٹیٹو زونز میں یا ایسی سڑکوں پر لگایا جا سکے گا جہاں پر رفتار کی حد 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم لاگو ہو گی۔
- سٹی آف برامپٹن کا شمار اونٹیریو میں ASE کو نافذ کرنے والی پہلی میونسپلٹیوں میں ہوتا ہے اور اس نے اپنا پہلا انتہائی سائن بورڈ 19 دسمبر 2019 کو لگایا تھا۔

ASE کے متعلق اضافی معلومات کے لیے، براہ کرم [یہاں](#) کلک کریں۔

اقتباسات

"برامپٹن میں تیز رفتاری کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا اور ہماری کونسل اس پیغام کو واضح کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے گی۔ ہمارے شہر کے 200 مقامات پر آٹومیٹڈ سپیڈ انفورسمنٹ لگانے جیسے اقدامات کے ذریعے، ہم گاڑیوں کی وجہ سے رونما ہونے والے ناخوشگوار واقعات میں کمی لانے اور سڑکوں کے تمام استعمال کنندگان، خاص طور پر سب سے زیادہ کمزور افراد کی حفاظت میں اضافے کی جانب کام کر رہے ہیں۔"

"برامپٹن میں ASE کے اضافی مقامات کی منظوری کے ذریعے، ہم تمام ڈرائیورز کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں تیز رفتاری کو برداشت نہیں کیا جاتا اور یہ کہ سٹرک کو تمام استعمال کنندگان کو مل جل کر اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس سال ووڈین اسٹریٹ پر ASE کے نفاذ کے بعد، کونسل نے محفوظ اور فعال نقل و حمل کے فروغ اور اس کی معاونت کے لیے قریب ہی ایک عبوری موٹر سائیکل لین بھی شروع کر دی ہے۔ ہماری ترجیح لوگوں کے لیے سڑکوں کو محفوظ بنانا ہے تاکہ ہم برامپٹن کے تمام رہائشیوں کے سفر کو بحفاظت جاری رکھ سکیں!"

پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"آٹومیٹڈ اسپید انفورسمنٹ ایک یاددہانی ہے کہ ہم سب کو تیز رفتاری سے گریز کرنا چاہیے اور یہ کہ اپنی کمیونٹیز کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ASE کو متعارف کرانے والے پہلے شہروں میں سے ایک ہونے کے طور پر، ہم اپنے شہریوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی صحت اور حفاظت ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔"

پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8: وائس چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"ہماری روڈز مینٹیننس اینڈ ٹریفک سروسز کی ٹیم ہماری سڑکوں، پکڈنگوں اور ٹریفک کے نظاموں کو محفوظ اور مؤثر بنانے میں ایک ایک انتہائی لازمی اور سنجیدہ نوعیت کا کردار ادا کرتی ہیں۔ کووڈ-19 کی وباء سے پہلے اور اس کے دوران، ہمارے ملازمین ہماری کمیونٹی کی صحت اور حفاظت میں اضافہ اور اس کے فروغ کے لیے آٹومیٹڈ اسپید انفورسمنٹ کے نفاذ پر پس منظر میں جانفشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca